

Num

Chapter 21

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיִּשְׁמַע	הַכְּנַעֲנִי	מֶלֶךְ-	עָרָד	יֹשֵׁב	הַיָּבֵב	כִּי	בָּא	יִשְׂרָאֵל	דָּרָךְ	הָאֶתְרִים	וַיִּלְחֶם
	اور-سُنا	کنعانی	بادشاہ-	عراد	رہنے والے	جنوب	کہ	آیا	اسرائیل	راستے	اتاریم	اور-لڑا
	H8085		H4428		H3427	H5045		H0935	H3478	H1870	H0871	
	בְּיִשְׂרָאֵל	וַיֹּשֶׁב	מִמְנוּ	שָׁבִי:	اسرائیل سے	اور-پکڑا	ان سے	قیدی				
	H3478	H7617										

کر قید کر پکڑ کو ایک کئی اور کیا حملہ پر ان نے اُس ہیں۔ رہے بڑھ طرف کی اتھارم اسرائیلی کہ ملی خبر کو بادشاہ کے عراد ملک کنعانی کے نجب دشت لیا۔

2	וַיֵּרֶד	יִשְׂרָאֵל	בְּדָר	לְיְהוּדָה	וַיֹּאמֶר	אִם-	נָתַן	תָּתִן	אֶת-	הָעָם	הַזֶּה
	اور-منت مانی	اسرائیل	منت	یہوواہ کے لیے	اور-کہا	اگر-	دینا	دے گا-تُو	کو-	قوم	اس
	H5087	H3478	H5088	H3068	H0559		H5414	H5414	H0853	H2088	
	בְּיָדִי	וְהִחַרְמֹתִי	אֶת-	עָרֵיהֶם:	میرے ہاتھ میں	اور-حرام کروں گا	کو-	ان کے شہر			
	H3027	H0853									

گے۔ دین کر تباہ سمیت شہروں کے ان انہیں ہم تو گا دے فتح پر ان ہمیں تو اگر کہا، کر مان مانت سامنے کے رب نے اسرائیلیوں تب

3	وַיִּשְׁמַע	יְהוָה	בְּקוֹל	יִשְׂרָאֵל	וַיִּתֵּן	אֶת-	הַכְּנַעֲנִי	וַיִּחַרְמֵם	אֶתְהֶם	וְאֶת-	עָרֵיהֶם
	اور-سُنا	یہوواہ	آواز-کو	اسرائیل	اور-دے دیا	کو-	کنعانی	اور-حرام کیا	انہیں	اور-کو-	ان کے شہر
	H8085	H3068		H3478	H5414	H0853			H0853	H0853	
	וַיִּכְרָא	שֵׁם-	הַמְּקוֹם	חֲרָמָה:	اور-پکارا	نام-	جگہ	حرمہ			
	H7121	H8034	H4725	H2767							

یعنی حرمہ نام کا جگہ اُس لئے اس دیا۔ کر تباہ طرح پوری سمیت شہروں کے ان انہیں نے اسرائیلیوں بخشی۔ فتح پر کنعانیوں اور سنی کی ان نے رب گیا۔ پڑ تباہی

4	וַיִּסְעוּ	זוּרָה	הָהָר	דָּרָךְ	יָם-	סוּרָה	לְסֹבֵב	אֶת-	אֶרֶץ	אֲדוּם	וַתִּקְצַר
	اور-کوچ کیا	بور سے	پہاڑ	راستے	سمندر-	سرخ	گھومنے کو	کو-	سرزمین	ادوم	اور-تنگ ہوئی
	H5265	H2023	H2022	H1870	H3220	H5488	H5437	H0853	H0776	H0123	
	וַיָּפֶשׂ	הָעָם	בְּדָרָךְ:	جان-	لوگوں	راستے میں					
	H5315		H1870								

گئے۔ بو بے صبر لوگ چلتے چلتے لیکن پڑے۔ نہ گزرنا سے میں ملک کے ادوم تاکہ دیئے چل طرف کی قَلزم بحر وہ کر بو روانہ سے پہاڑ بور

5	וַיֵּרֶد	הָעָם	בְּאֶלְהֵים	וּבְמֹשֶׁה	לָמָּה	הָעֵלִיתָנוּ	מִמִּצְרָיִם	לְמוֹת	בְּמִדְבָּר
	اور-بولے	لوگ	خدا کے خلاف	اور-موسی کے خلاف	کیوں	اُٹھا لائے تم ہمیں	مصر سے	مرنے کو	صحرا میں
	H1696		H0430	H4872	H4100	H5927	H4714	H4191	
	כִּי	אֵין	לָחֶם	וְאֵין	מַיִם	וְנִפְשָׁנוּ	בְּלֶחֶם	הַקָּלִיל:	
	کیونکہ	نہیں	روٹی	اور-نہیں	پانی	اور-ہماری جان	روٹی سے	بلکی	
	H0369	H3899	H0369	H4325	H5315	H6973	H3899	H7052	

پانی۔ نہ بے یاب دست روٹی نہ یہاں ہیں؟ آئے لے کیوں لئے کے مرنے میں ریگستان کر نکال سے مصر ہمیں آپ لگے، کرنے باتیں خلاف کے موسیٰ اور رب وہ ہے۔ آتی گھن سے خوراک کی قسم گھٹیا اس ہمیں

6	וַיִּשְׁלַח	וְהָיָה	בְּעָם	אֵת	הַנְּחָשִׁים	הַשָּׂרָפִים	וַיִּנְשְׁקוּ	אֶת־	הָעָם	וַיָּמָת	עַם־
	اور-بھیجا	یہوواہ	لوگوں-میں	کو	سانپ	جلانے-والے	اور-کاٹے	کو-	لوگوں	اور-مرے	لوگ-
	H7971	H3068		H0853	H5175			H0853		H4191	

רַב מִיִּשְׂרָאֵל:
بہت اسرائیل-سے
[H3478](#)

گئے۔ مر لوگ سے بہت سے کاٹنے کے جن دیئے بھیج سانپ زہریلے درمیان کے اُن نے رب تب

7	וַיִּבְאֹ	הָעָם	אֶל־	מֹשֶׁה	וַיֹּאמְרוּ	חָטְאוּנוּ	כִּי־	דִּבַּרְנוּ	בְּיְהוָה	נַחֲנוּ
	اور-آئے	لوگ	-پاس-	موسیٰ	اور-کہا	گناہ-کیا-ہم-نے	کیونکہ-	بولے-ہم	یہوواہ-کے-خلاف	اور-تیرے-خلاف
	H0935	H0413		H4872	H0559	H2398		H1696	H3068	

	הַתְּפִלָּה	אֶל־	יְהוָה	וַיִּסַּר	מֵעֲלֵינוּ	אֶת־	הַנְּחָשׁ	וַיַּתְּפִלֵּל	מֹשֶׁה	בְּעַד	הָעָם:
	دعا-کر	-پاس-	یہوواہ	اور-دور-کرے	ہم-سے	کو-	سانپ	اور-دعا-کی	موسیٰ	کے-لیے	لوگوں
	H6419	H0413	H3068	H5493		H0853	H5175	H6419	H4872	H1157	

دے۔ کر دُور سانپ سے ہم رب کہ کریں سفارش ہماری کیا۔ گناہ ہوئے کرتے باتیں خلاف کے آپ اور رب نے ہم کہا، نے اُنہوں آئے۔ پاس کے موسیٰ لوگ پھر کی دعا لئے کے اُن نے موسیٰ

8	וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֶל־	מֹשֶׁה	עֲשֵׂה	לָךְ	שָׂרָף	וְשִׁים	אֹתוֹ	עַל־	גֹּס	וְהָיָה	כָּל־
	اور-کہا	یہوواہ	-سے-	موسیٰ	بنا	اپنے-لیے	سراف	اور-رکھ	اُسے	پر-	کھمبے	اور-ہو-گا	ہر-
	H0559	H3068	H0413	H4872					H0853		H5251	H1961	H3605

הַנְּשֹׂרָף
کٹا-ہوا
اور-دیکھے-گا
اُسے
اور-جیئے-گا
وְחַיִּי:
[H7200](#)
[H0853](#)
[H2425](#)

گا۔ جائے بچ کر دیکھ اُسے وہ ہو گیا ڈسا بھی جو دے۔ لٹکا سے کھمبے اُسے کر بنا سانپ ایک کہا، سے موسیٰ نے رب تو

9	וַיַּעַשׂ	מֹשֶׁה	נְחָשׁ	נְחָשׁ	נְחָשׁ	וַיִּשְׁמְחוּ	עַל־	הַנָּס	וְהָיָה	אִם־	נִשָּׂא	הַנְּחָשׁ	אֶת־
	اور-بنایا	موسیٰ	سانپ	پیتل	اور-رکھا-اُسے	پر-	کھمبے	اور-ہوتا	اگر-	کاٹتا	سانپ	کو-	
	H0376	H5027	H0413	H5175			H5251	H1961			H5175	H0853	

אִישׁ
آدمی
اور-دیکھتا
کی-طرف-
اُسے
اور-جیتا
وְחַיִּי:
[H0376](#)
[H5027](#)
[H0413](#)
[H5175](#)
[H2425](#)

نظر پر سانپ کے پیتل وہ تھا گیا ڈسا بھی جسے کہ ہوا ایسا اور دیا۔ لٹکا سے اُس کو سانپ کے کر کھڑا کھمبا اور بنایا سانپ ایک کا پیتل نے موسیٰ چنانچہ گیا۔ بچ کے کر

10	וַיִּסְעוּ	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וַיַּחֲנוּ	בְּאֶבְת:
	اور-کوچ-کیا	بنی	اسرائیل	اور-خیمہ-لگایا	اوبوت-میں
	H5265		H3478	H2583	H0088

لگائے۔ خیمہ اپنے میں اوبوت اور ہوئے روانہ اسرائیلی

11	וַיִּסְעוּ	מֵאֶבֶת	וַיַּחֲנוּ	הָעֵבְרִים	בְּמִדְבָּר	אֶשְׂרָ	עַל־	פְּנֵי	מוֹאָב
	اور-کوچ-کیا	اور-اوبوت-سے	اور-خیمہ-لگایا	عبرے-بعباریم-میں	صحرا-میں	جو	پر-	سامنے	موآب
	H5265	H0088	H2583	H5863				H6440	H4124

מִמִּזְרַח
مشرق-سے
سورج
[H8121](#)
[H4217](#)

بے۔ سامنے کے موآب طرف کی مشرق جو میں ریگستان اُس ڈالے، ڈیرے میں عبایم عیے کے کر کوچ سے وہاں پھر

12 מְשֶׁם נִסְעוּ וַיִּחַזּוּ בְּנַחֲל זָרַד: וּבָא-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא וְיִחִימָה-לְגַאִיָּא וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד
 H8033 H5265 H2583 H2218

بوئے-زن خیمہ میں زرد وادی وہ کر بو روانہ سے وہاں

13 מְשֶׁם נִסְעוּ וַיִּחַזּוּ זְרַד-כִּיָּא וְיִחִימָה-לְגַאִיָּא וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא וְיִחִימָה-לְגַאִיָּא וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא
 H8033 H5265 H2583 H5676 H0769 H3318 H1366 H0567

כִּי אֲרִנּוֹן אֲרִנּוֹן סֶרְחַד מוֹאֲבִים מוֹאֲבִים מוֹאֲבִים מוֹאֲבִים מוֹאֲבִים מוֹאֲבִים מוֹאֲבִים מוֹאֲבִים
 H0769 H1366 H4124 H0996 H4124 H0996 H4124 H0996 H0567 H0996

بے- نکلتا سے علاقے کے اموریوں اور بے میں ریگستان دریا یہ بوئے- زن خیمہ پر کنارے جنوبی یعنی پرلے کے ارنون دریائے تو بوئے روانہ سے زرد وادی جب بے-سرحد کی درمیان کے موآبیوں اور اموریوں یہ

14 עַל-כֵּן יֵאמָר וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא וְיִחִימָה-לְגַאִיָּא וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא
 H0559 H4421 H3068 H0853 H2052 H0853 H0853

אַרְנּוֹן: אֲרִנּוֹן H0769

واڈیاں کی ارنون دریائے بے، میں شوفہ جو واہیب بے، بھی میں جنگیں کی راب کتاب ذکر کا اس

15 וְאִשְׁרָאֵל וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא וְיִחִימָה-لְגַאִיָּא וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא
 H0793 H5186 H3427 H6144 H8172 H1366 H4124

بے- واقع پر سرحد کی موآب اور بے جاتا تک شہر عار جو ڈھلان وہ کا وادیوں اور

16 וּמְשֶׁם נִסְעוּ וַיִּחַזּוּ זְרַד-כִּיָּא וְיִחִימָה-لְגַאִיָּא וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא
 H8033 H0876 H1931 H0875 H0559 H3068 H4872 H0622 H0853

וְאִתְּנָה לָהֶם מֵיִם: ס - H5414 H4325

گا- دوں پانی انہیں میں تو کر اکٹھا کو لوگوں کہا، سے موسیٰ نے رب جہاں بے بیر وہی یہ پہنچے- کنواں یعنی بیر وہ سے وہاں

17 אֵזָב וְיִשְׂרָאֵל וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא וְיִחִימָה-لְגַאִיָּא וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא
 H7891 H3478 H0853 H2063 H5927 H0875

گاؤ، گیت میں بارے کے اُس نکل! پھوٹ کنوئیں، اے گایا، گیت یہ نے اسرائیلیوں وقت اُس

18 בְּאֵר שָׂרָן וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא וְיִחִימָה-لְגַאִיָּא וְאִדָּי-מִיָּא זָרַד-סֶעַי וְכֹחַ-כִּיָּא
 H0875 H2658 H8269 H5081 H2710

מִתְּנָה: מִתְּנָה H4980

کو متنہ سے ریگستان وہ پھر کھودا- سے لائھیوں اپنی اور شاہی عصائے نے رابنماؤں کے قوم جسے کھودا، نے سرداروں جسے میں بارے کے کنوئیں اُس گئے،

19 וממזנה נחליאל ומנחליאל ומנחליאל:
 اور-متانہ-سے نחلیال اور-نحلیال-سے باموت
 H4980 H5160 H1120

کو-بامات سے ایل نحلی اور کو ایل نحلی سے متنہ

20 ומבמות اور-باموت-سے הנא וادی אשר جو میدان-میں בשדה موآב ראש چوٹی הפסגה פסگ اور-نظر-آتا-بے ונשקפה על-پر פני سامنے
 H1120 H1516 H4124 H6449 H8259 H6440

הישimon:
 ישimon
 H3452

یشimon حصہ جنوبی کا یردن وادی سے چوٹی کی پہاڑ اس ہے۔ میں دامن کے پہاڑ پسگ جو پہنچے میں وادی اُس کی علاقے کے موآبیوں وہ سے بامات ہے۔ آتا نظر خوب

21 וישלח اور-بھیجے ישראל اسرائیل مלאכים قاصد אל-پاس سیحون بادشاہ- מלך-بادشاہ האמורי اموری לאמר: کہتے-ہوئے
 H7971 H3478 H4397 H0413 H5511 H4428 H0567 H0559

بھیجی، اطلاع کو سیحون بادشاہ کے اموریوں نے اسرائیل

22 אעברה گا تیری-سرزمین-سے בארצה تیری-سرزمین-سے לא نہ مزیں-گے נטה مزیں-گے בשדה سے-کھیت اور-سے-باغ ובקرم اور-سے-باغ לא نہ بیئیں-گے נשקה پانی کنویں-سے באר کنویں-سے
 H0776 H3808 H5186 H3808 H1870 H4428 H3212 H5704 H1366 H3754 H3808 H4325 H0875

בדרך-راستے-پر הנלך بادشاہ چلیں-گے גך تک אשר-جب-عبر گزریں-تیری-سرحد
 H1870 H4428 H3212 H5704 H1366

ہم گے۔ پئیں پانی کا کنوئیں کسی نہ گے، چھیڑیں باغ کا انگور یا کھیت کوئی ہم نہ گے۔ جائیں گزر سیدھے سیدھے ہم دیں۔ گزرنے سے میں ملک اپنے ہمیں گے۔ رہیں ہی پر شاہراہ ہوئے گزرتے سیدھے سے میں ملک کے آپ

23 ולא-اور-نہ- נתן دیا סיון سیحون کو- את-اسرائیل عבר گزرنا اپنی-سرحد-سے ובבל اور-اکٹھا-کیא ויאסף اور-اکٹھا-کیא סיון سیحون کو- את-سارے- כל-
 H3808 H5414 H5511 H0853 H3478 H1366 H0622 H5511 H0853 H3605

עמוں اپنے-لوگوں اور-نکلا ملنے-کو לקראת ישראל اسرائیل המדברה صحرا-کی-طرف ויבא اور-آیا יחזה یہزہ اور-لڑا וילחם اسرائیل-سے
 H3318 H7125 H3478 H0935 H3096 H3478

جنگ سے اسرائیلیوں نے اُس کر پہنچ یہض پڑا۔ چل میں ریگستان لئے کے لڑنے سے اسرائیل کے کر جمع فوج اپنی بلکہ دیا نہ گزرنے انہیں نے سیحون لیکن کی۔

24 ויכה اور-مارا-اُسے ישראל اسرائیل لپی-دھار- קרב تلوار اور-قبضہ-کی- ויילש اور-قبضہ-کی- את-اُس-کی-سرزمین ארצו اور-نوں-سے מארנו עד-تک- יבק-یبوق-تک- עד-
 H5221 H3478 H6310 H2719 H3423 H0853 H0776 H0769 H5704 H2999 H5704

בני-عمון בני-عمون כי-کیونکہ עז مضبوط עז-سرحد נבול-
 H5983 H5794 H1366 H5983

نہ آگے سے اس وہ لیا۔ کر قبضہ پر ملک کے اُس تک سرحد کی عمونیوں یعنی تک یبوق دریائے کر لے سے ارنون دریائے اور کیا قتل اُسے نے اسرائیلیوں لیکن تھی۔ رکھی کر بندی حصار کی سرحد اپنی نے عمونیوں کیونکہ سکے جا

25	וַיִּקַּח	יִשְׂרָאֵל	אֶת	כָּל-	הָעָרִים	הָאֵלֶּה	וַיָּשֶׁב	יִשְׂרָאֵל	בְּכָל-	עָרֵי	הָאֲמֹרִי	בְּחֶשְׁבֹן
	اور-لیا	اسرائیل	کو	سارے-	شہر	یہ	اور-بسا	اسرائیل	سارے-	شہروں	اموری	حشبون-میں
	H3947	H3478	H0853	H3605	H0428	H3427	H3478	H3605	H0567	H2809		

وַבְּכָל-
اور-سارے-
بְּזִתִּיהָ:
اُس-کے-گاؤں
[H1323](#) [H3605](#)

تھیں۔ شامل آبادیاں کی گرد ارد کے اُس اور حشبون میں اُن لگے۔ رہنے میں اُن کے کر قبضہ پر شہروں اموری تمام اسرائیلی

26	כִּי	חֶשְׁבֹן	עִיר	סִיחֹן	מֶלֶךְ	הָאֲמֹרִי	הוּא	וְהוּא	נֶלְחַם	בְּמֶלֶךְ	מוֹאָב	הָרְאשֹׁן
	کیونکہ	حشبون	شہر	سیحون	بادشاہ	اموری	تھا	اور-وہ	لڑا-تھا	بادشاہ-سے	موآب	پہلے
		H2809	H5511	H4428	H0567	H1931	H1931	H1931	H4428	H4124	H7223	

וַיִּקַּח
اور-لیا-تھا
אֶת-
کو-
כָּל-
ساری-
אֲרָצוֹ
اُس-کی-سرزمین
מִדָּדוֹ
اُس-کے-ہاتھ-سے
עַד-
تک-
אֶרְצוֹ:
ارنون
[H0776](#) [H3605](#) [H0853](#) [H3947](#)

تھا۔ لیا جھین تک ارنون دریائے علاقہ یہ سے اُس کر لڑ سے بادشاہ پچھلے کے موآب نے اُس تھا۔ الحکومت دار کا سیحون بادشاہ اموری حشبون

27	עַל-	כֹּן	יֵאמְרוּ	הַמְּשָׁלִים	בָּאוּ	חֶשְׁבֹן	תְּבַנְּהָ	וְתַכְּנֶנּוּ	עִיר	סִיחֹן:
	اس-لیے-	اسے	کہتے-ہیں	مثل-گو	اُو	حشبون	تعمیر-بو	اور-قائم-بو	شہر	سیحون
			H0559	H0935	H2809	H1129	H5511	H5511		

کرو۔ قائم نو سر از کو شہر کے سیحون کرو، تعمیر نو سر از اُسے کر آ پاس کے [حشبون ہے، گیا کیا یوں میں شاعری ذکر کا واقعہ اس

28	כִּי-	אֵשׁ	יִצְאָה	מִחֶשְׁבֹן	לְהַבֶּה	מִקְרִית	סִיחֹן	אֶבְרָהָ	עָר	מוֹאָב	בְּעֵלֵי	בְּמֹת
	کیونکہ-	آگ	نکلی	حشبون-سے	شعلہ	قریت-سے	سیحون	کھا-گئی	عار	موآب	مالکوں-کو	بلندیوں
		H0784	H3318	H2809	H3852	H7151	H5511	H0398	H6144	H4124	H1167	H1116

אֶרְצוֹ:
ارنون
[H0769](#)

کیا۔ بھسم کو مالکوں کے بلندیوں کی ارنون دیا، جلا کو عار شہر کے موآب نے اُس بھڑکا۔ شعلہ سے شہر کے سیحون نکلی، آگ سے حشبون

29	אִזִּי-	לָךְ	מוֹאָב	אֶבְרָתָ	עַם-	כְּמוֹשׁ	נָתַן	בְּנָיו	פְּלִיטָם	וּבְזִתָּיו
	افسوس-	تجھ-پر	موآب	تباہ-ہوا-تُو	قوم-	کموش	دیا	اُس-کے-بیٹوں	بھاگے-والوں	اور-اُس-کی-بیٹیوں
	H0188	H4124	H0006	H3645	H5414					

בְּשָׂבִית
قید-میں
لְמֶלֶךְ
بادشاہ-کو
אֲמֹרִי
اموری
סִיחֹן:
سیحون
[H5511](#) [H0567](#) [H4428](#)

کی سیحون بادشاہ اموری کو بیٹیوں اپنی اور مفور کو بیٹوں اپنے نے کموش ہے۔ ہوئی ہلاک تُو قوم، کی دیوتا کموش اے افسوس! پر تجھ موآب، اے ہے۔ دیا بنا قیدی

30	וַיָּרֶם	אֶבְרָ	חֶשְׁבֹן	עַד-	דִּיבּוֹן	וַנְּשִׂים	עַד-	נָפַח	אֲשׁוּר	עַד-
	اور-تیر-کیا-ہم-نے-اُن-پر	تباہ-ہوا	حشبون	تک-	دیبون	اور-برباد-کیا	تک-	نوفح	جو	تک-
	H0006	H2809	H5704	H1769	H8074	H5704	H5704	H5302	H5704	

מִדְּבָא:
میدبا
[H4311](#)

ہے۔ [تک میدبا علاقہ کا جس نُفح وہ کیا، تباہ کچھ سب تک نُفح نے ہم ہوا۔ برباد تک دیبون علاقہ کا حشبون تو چلائے تیر پر اموریوں نے ہم جب لیکن

31	וַיָּשֶׁב	יִשְׂרָאֵל	בְּאֶרֶץ	הָאֲמֹרִי:
	اور-بسا	اسرائیل	سرزمین-میں	اموری
	H3427	H3478	H0776	H0567

32	וישלה	משה	לרגל	את	יעזר	גילגל	בנתיה	ויירש	(ויורש)	את
	اور-بھیجا	موسی	جاسوسی-کرنے	کو-	یعزیر	اور-قبضہ-کیا	اُس-کے-گاؤں	اور-نکالا	اور-نکالا	کو-
	H7971	H4872	H7270	H0853	H3270	H3920	H1323	H3423	H3423	H0853

האמרי
اموری
جو-
وبان
[H0567](#)

שם:
اموری
جو-
وبان
[H8033](#)

اور کیا قبضہ بھی پر شہروں کے گرد ارد کے اُس اور یعزیر نے اسرائیلیوں تھے۔ رہتے اموری بھی وہاں بھیجے۔ شہر یعزیر جاسوس اپنے نے موسیٰ سے وہاں دیا۔ نکال کو اموریوں کے وہاں

33	ויפגז	ויעלו	דרך	הבשן	ויצא	עוג	מלך	הבשן	לקראתם	הוא	וכל
	اور-مڑے	اور-چڑھے	راستے	بسین	اور-نکلا	عوج	بادشاہ-	بسین	اُن-سے-ملنے	وہ	اور-سارے-
	H6437	H5927	H1870	H1316	H3318	H5747	H4428	H1316	H7125	H1931	H3605

עמו
اپنے-لوگ
جنگ-کے-لیے
ادری
[H4421](#)

אדרעי:
ادری
[H0154](#)

آیا۔ ادری شہر لئے کے لڑنے سے اُن کر لے فوج تمام اپنی عوج بادشاہ کا بسین تب بڑھے۔ طرف کی بسین کر مڑ وہ بعد کے اِس

34	ויאמר	יהוה	אל	משה	אל	תירא	אתו	כי	בדרך	נתתי	אתו
	اور-کہا	یہوواہ	سے-	موسی	مت-	ڈر	اُس-سے	کیونکہ	تیرے-ہاتھ-میں	دیا-ہے-میں-نے	اُسے
	H0559	H3068	H0413	H4872	H0408	H3372	H0853		H3027	H5414	H0853

اور-کو-	سارے-	اُس-کے-لوگ	اور-کو-	اُس-کی-سرزمین	اور-کر	لؤ	کأش	عشيت	لסיוح	مלך
H0853	H3605	H0853	H0853	H0776			جیسا	اور-نے	سیحون-کو	بادشاہ
									H5511	H4428

האמרי
اموری
جو
رہتا-تھا
حشون-میں
[H0567](#)

אשר
یوشب
بشون:
حشون-میں
[H2809](#)

جو کر سلوک وہی ساتھ کے اُس ہوں۔ چکا کر حوالے تیرے ملک کا اُس اور فوج تمام کی اُس اُسے، میں ڈرنا۔ نہ سے عوج کہا، سے موسیٰ نے رب وقت اُس تھا۔ حشون الحکومت دار کا جس کہا، ساتھ کے سیحون بادشاہ کے اموریوں نے ٹو

35	ויכז	אתו	ואת	בניו	ואת	כל	עמו	עד	בלתי	השאיר	לؤ
	اور-مارا	اُسے	اور-کو-	اُس-کے-بیٹوں	اور-کو-	سارے-	اُس-کے-لوگ	تک-	بغیر	بچا-رہنے-	اُسے
	H5221	H0853	H0853	H0853	H0853	H3605		H5704	H1115	H7604	

שריד
بچا-ہوا
اور-قبضہ-کیا
کی-
اُس-کی-سرزمین
[H8300](#)

את
اور-
اُس-کی-سرزمین
[H0776](#)

ויירשו
اور-
اُس-کی-سرزمین
[H3423](#)

لیا۔ کر قبضہ پر ملک کے بسین نے اُنہوں پھر بچا۔ نہ بھی کوئی دیا۔ کر ہلاک کو فوج تمام اور بیٹوں کے اُس عوج، نے اسرائیلیوں